




سیدنا یحییٰ عیسیٰ، حسینؑ، شہداء

حقیقتِ تقویٰ

سیرِ یاقینِ حسینؑ

ادارہ تعلیمات اسلامیہ
حیدرآباد



بنیادی عقیدہ

- اللہ ہمارا رب ہے، اور منزہ عن العیوب ہے۔
- محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور معصوم عن الخطا ہے۔
- قرآن مجید خدا کی کتاب، ہمارا رابطہ حیا اور بے عیب کلام ہے۔

انسان نخطاؤں اور لغزشوں کا پتلا ہے۔ اس حیثیت سے بہر حال یہ امکان رہتا ہے کہ وہ لکھتے ہوئے پھسل جائے۔ دورانِ مطالعہ اگر آپ اشارۃً یا صراحتاً کسی بھی انداز میں ہمارے درج بالا بنیادی عقیدہ کو مجروح ہوتا ہوا پائیں، تو اسکو ہماری ذاتی تکمروں میں متصور کرتے ہوئے قلم زد کر دیجئے ہم اپنی عزت مقام اور جھوٹی اُنا کے مقابلہ میں ایمان کو بہر صورت ترجیح دیتے ہیں۔

فہرست

باب اول

تقویٰ کا مفہوم اور معنی

- ۶ ۱۔ تقویٰ کیا ہے۔
- ۸ ۲۔ تقویٰ کے مدارج۔
- ۸ ۹۔ پہلا درجہ
- ۱۰ ۱۰۔ دوسرا درجہ
- ۱۰ ۱۱۔ تیسرا درجہ
- ۱۱ ۱۲۔ تقویٰ کی اہمیت۔
- ۱۲ ۱۳۔ تقویٰ کی حد
- ۱۳ ۱۴۔ تقویٰ کے اثرات
- ۱۳ ۱۵۔ تقویٰ اور انسانی عظمت کا راز
- ۱۴ ۱۶۔ " " " " فلاح حقیقی
- ۱۵ ۱۷۔ " " " " سکون زندگی
- ۱۵ ۱۸۔ " " " " قرب الہی
- ۱۶ ۱۹۔ " " " " امتیاز
- ۱۷ ۲۰۔ " " " " کشادگی رزق

باب دوم

تشکیل تقویٰ کی بنیادیں

- ۱۔ مضبوط ایمان

۲۰

۲۱

۲۱

۲۲

۲۲

۲۲

۲۴

۲۷

۲۸

نمبر عنوان سے

۲۔ کہ دار کی تعمیر

۳۔ تلاش مرشد

۴۔ عفو و فکر

۵۔ قرآن سے استدلال

۶۔ علم شریعت کا ہونا

۷۔ خوفِ خدا

۸۔ خوفِ آخرت

۹۔ دعا

۱۰۔ استقامت

باب سوم

تقویٰ کے تقاضے

۱۔ شرک سے اجتناب

۲۔ نظام عبادت کا قیام

۳۔ ذکرِ الہی میں مشغولیت

۴۔ فکرِ آخرت

۵۔ اصلاحِ معاشرہ

۶۔ اتحادِ ملت

۷۔ شعائرِ اللہ کی تنظیم

۸۔ احترامِ رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم

۹۔ قیامِ عدل

۱۰۔ رسومِ محض سے اجتناب

۳۰

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۷

۳۸

۴۰

۴۳

نمبر	عنوان
۱۱	غیر اقوام کی تقلید سے بیزاری
۱۲	وعدے کی پابندی
۱۳	اصول تعاون
۱۴	غیبت سے بچنا
۱۵	بدکاری سے اجتناب
۱۶	اساس عمل
۱۷	عفو و درگزر
۱۸	سچیائی
۱۹	احسان
۲۰	صبر
۲۱	تیار ہی جہاد
۲۲	حزمتِ سوو
۲۳	دُعَا

صفحہ

۴۳

۴۴

۴۸

۵۰

۵۱

۵۳

۵۴

۵۴

۵۸

۵۹

۶۱

۶۲

۶۴

باب اول

تقویٰ کا معنی اور مفہوم

تقویٰ کیا ہے؟

تقویٰ انسانی زندگی کی وہ صفت ہے جو تمام انبیاء کی تعلیم کا محور رہی۔ اس کا لغوی معنی تو کسی شے سے دور رہنے، اُس سے بچنے یا اُس سے چھوڑنے ہی کے ہوتے ہیں۔ لیکن شریعتِ اسلام میں تقویٰ نہایت وسیع معنی رکھتا ہے۔ مختصر طور پر تقویٰ کی تعریف کے سلسلہ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ دل کی اُس حالت کا نام ہے جس کی موجودگی میں انسان ہر اس فعل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ پاک کو ناپسند ہو۔

”انما الاعمال بالنیات“ کے تحت جس طرح نیت ہر عمل کی جان ہوتی ہے اسی طرح تقویٰ میں بھی اسے بڑا دخل ہے۔ اگر ارکان گناہ اور خدا کی نافرمانی سے صرف اس لئے بچا جائے کہ خدا ناراض ہو گا یا رحمت الہی سے محرومی ہوگی تو تقویٰ کی حقیقت حاصل ہوتی ہے ورنہ اگر خیال رسوائی یا بدنامی کا ڈر ہو یا کوئی عمل دکھلاوے کے لئے کیا جائے تو تقویٰ نہیں ہوگا۔

قرآن و حدیث میں لفظ ”تقویٰ“ مختلف صورتوں میں بے شمار مقامات پر استعمال کیا گیا ہے۔ مختلف استعمالات کے پیش نظر اس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے۔

”تقویٰ رذائل سے بچنے اور فضائل سے آراستہ ہونے کا نام ہے۔“

بچنے کا نام تقویٰ ہے۔“

متقی آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ریاسے بچے اس لئے کہ یہ اعمال کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح دیک لکھی کو کھا جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ کے علاقہ میں ایک بار تخط پڑ گیا۔ لوگ آپ کے پاس دعا کرنے کے لئے آئے۔ آپ فرمانے لگے: "بارش اس لئے نہیں ہوتی کہ گناہ کار زیادہ ہو گئے ہیں اور سب سے بڑا گناہ کار میں ہوں۔ اگر مجھے شہر سے نکال دیا جائے تو بارانِ رحمت برسے لگ جائے گی۔"

اللہ ان لوگوں پر رحمتیں برسائے عظیم ہوتے ہوئے بھی ان کے ہاں دعویٰ نہیں تھا اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔

فردوسی است دلیل رسیدگان کمال
کہ چوں سوار بمنزل رسد پیادہ شود
یعنی اہل کمال کی نشانی عاجزی اور انکاری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں
کہ سوار جب منزل مقصود پر پہنچتا ہے تو پیادہ ہو جاتا ہے۔

تقویٰ کے درج

پہلا درجہ

التوقی عن العذاب المخلد بالتبری عن الشرك۔

(انوار التنزیل جلد اول ص ۱۱)

عذابِ آخرت سے ڈر کر اپنے آپ کو شرک سے بچانا تقویٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور افعال میں یکتا جاننا تقویٰ کا پہلا درجہ ہے۔

ہے۔ مومن کے عرفانی مدارج کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اُس کی رگ و جان میں توحید
رچی بسی ہوتی ہے۔ وہ اللہ ہی کو معبود سمجھتا ہے، اور اسی ذات کو مقصود
تصور کرتا ہے۔

گو یہ سب کو تسلیم ہے کہ معبود وہی ہے
مگر کم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے

مثنوی شکر کو ظلم عظیم سمجھتا ہے۔ اس کی دعوت و تبلیغ کا محور اثبات توحید
اور تردید شرک ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ توہین انبیاء اور گستاخی اولیاء توحید
نہیں بلکہ جرم عظیم ہے۔ جس طرح خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا
کفر ہے، اسی طرح انبیاء و مرسلین کو اپنی طرح سمجھنا یا اپنے آپ کو اُن
کے مثل جاننا مرتع کفر ہے۔ اللہ پاک ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ آمین
یارت العالمین۔

عقائد کا ٹھیک ہونا تقویٰ کی جان ہے۔ سورہ بقرہ میں مثنوی کی تعریف میں
اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ راسخ عقائد ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ۗ

(القرآن - ۲: ۶۴)

”وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، اور
ہمارے دیئے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں جو آپ پر اور آپ سے
پہلے نازل ہونے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر
یقین رکھتے ہیں۔“

دوسرا درجہ

التجنب عن كل ما يؤثم من أدرك حتى
الصفائر۔ (النوار التنزیل جلد اول ص ۱۶)

”ہر وہ فعل جس میں گناہ کا اندیشہ ہو یہاں تک کہ صغیرہ گناہوں سے
بچنا بھی تقویٰ کہلاتا ہے۔“

تقویٰ کے اس مرتبہ کی طرف قرآن حکیم نے اس طرح اشارہ فرمایا ہے۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔

(الاعراف - ۹۶)

”کاش بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے۔“

متقی کے لئے ان حدود کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے جو کائنات کے خالق
نے متعین کی ہیں۔ یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب خوفِ الہی دل میں
پوری طرح جاگزیں ہو اور انسان ہر وقت یہ سوچے کہ یہ دنیا ازھیر نگر می نہیں، بلکہ
امتحان گاہ ہے اور ایک نہ ایک دن اسے ضرور اپنے اعمال کے بارے میں
جواب دہ ہونا ہے۔

تیسرا درجہ

علامہ ناصر الدین ابوسعید عبداللہ بن عمر بیضاوی لکھتے ہیں۔

والثالثة ان يتنزه عما يشغل سره عن الحق

ويتبتل اليه بشرا شرة وهو التقوى المحققة

المطلوب۔ (النوار التنزیل ص ۱۶ جلد اول)

”ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنا اور اس سے غافل کر دینے والی اشیاء سے لاتعلق ہونا تقویٰ ہے اور تقویٰ کی یہی حالت حقیقی اور مطلوب و مقصود ہے۔“

یہاں تعلق سے مراد ہر وقت خدا کو یاد کرنا ہے۔ ہر فعل میں اس کی رضا دیکھنا ہے۔ بعض صوفیاء کا ”پاس انفاس“ کا معمول بھی تقویٰ کے اس مفہوم میں آسکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تقویٰ کی اس حالت کو ”ماسومی اللہ بس“ سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا۔

قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ط

(آل عمران : ۱۰۲)

اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ کا حق ہے۔“

انسان کو ہر وقت اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ کوئی چیز راہِ دین سے نفرت کا سبب نہ بنے۔ شیطانی طاقتیں اس پر غالب نہ آئیں۔ نفس امارہ اُسے پنے دامن میں نہ لے لے، اور یہ سب کچھ عملِ بہیم اور جہادِ مسلسل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ فکر اور جذبہ صادق اس سلسلہ میں مدد اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔

تقویٰ کی اہمیت

منتقیاں زندگی انسان کو نمونے کا انسان بنا دیتی ہے۔ مسلمان صرف اجتماعی زندگی ہی میں ایک ضابطے کا پابند نہیں بلکہ وہ انفرادی زندگی میں بھی ایک دستور اور قانون کے مطابق تعمیر اور تنظیم حیات کی منازل طے کرتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور قول و فعل رضائے الہی کے حصول کے لئے ہوتے ہیں۔

تقویٰ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا: "آلِ نبی کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: "مُتَّقِی"۔

علاوہ ازیں اسلام کا سارا نظام عبادت یہی مقصد رکھتا ہے کہ لوگ "متقی" یعنی صاحبِ کردار بن جائیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات "تقویٰ" کے لئے دعا فرماتے۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ
وَالْعَفَاةَ وَالْغِنَىٰ۔

"اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ اور عفت و غنا کا سوال کرتا ہوں۔"

تقویٰ کی حد

انبیاء کرام معصوم ہستیاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق ہی ایسے کرتا ہے کہ وہ بشری کمزوریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ "تقویٰ" اگر پوری آب و تاب کے ساتھ کہیں دکھائی دے سکتا ہے تو وہ انبیاء ہی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی شخص کی زندگی میں "تقویٰ" اس کا ملیت کے ساتھ جو ان کے ہاں ہوتا ہے نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس کی کوئی آخری حد مقرر نہیں کی، بلکہ ارشاد فرمایا :-

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ (التغابن - ۱۶)
پس ڈرو اللہ سے اپنی بساط کے مطابق۔

یعنی تقویٰ کا حق ادا کرنے میں تم کوئی کسر نہ اٹھا رکھو بلکہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق یہ کوشش کرے کہ اس کی زندگی احکامِ الہی کے مطابق بسر ہو۔

تقویٰ کے اثرات

اسلامی کردار یعنی تقویٰ کے اختیار کرنے سے ایک مسلمان کی زندگی پر بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دینی اور دنیوی زندگی میں اس کی بدولت انسانی ضمیر کو سکون و چین میسر ہوتا ہے۔

قرآن کی روشنی میں تقویٰ کے اثرات پر ہم ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔

تقویٰ اور انسانی عظمت کا راز

عظمت اور بزرگی کی تلاش انسانی فطرت ہے۔ ہر شخص معاشرہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں عظمت و شرافت اور بلندی مراتب کا معیار دولت کی کثرت نہیں۔ مال و زر کا ہونا نہیں اور نہ ہی حسن و جمال کو اس میں کوئی دخل ہے بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کی خاطر گزارنا فضیلت کی اصل کسوٹی ہے۔

قرآن مجید اس بات کی تائید یوں کرتا ہے:-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ أَكْرَمُ۔ (الحجرات-۱۳)

اللہ کے نزدیک معزز ترین شخص وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حقیقی شرفِ تقویٰ ہی میں ہے۔ آپ نے قبا کے خطبہ میں ایک بار ارشاد فرمایا: "تقویٰ عزت دلاتا ہے اور اللہ کو خوش کرتا ہے۔"

معلوم ہوا کہ حسب و نسب کی روحانی اور مقصودی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں بلکہ یہ وہ بت ہیں جن کی پوجا سے ہماری قوم مسلم قومیت کھوتی جا رہی ہے۔ نسلی اور معاشی امتیازات نے ہمارے اسلامی معاشرہ کو اندر سے کھوکھلا کر دی ہے۔ علاقائی تعصبات دل و دماغ پر پوری طرح تسلط جمار ہے ہیں اور یہ سب کچھ تقویٰ کے منافی ہے۔

تقویٰ اور فلاح حقیقی

انسان جب تک نظامِ وحی سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا نقصان اور خسارے میں رہتا ہے۔ ہدایت کے لئے وجدان اور عقل اس کے لئے نا کافی ثابت ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے خالق اور ہادی کی طرف رجوع نہ کرے تو وہ اکثر فیصلے غلط کرتا ہے۔ اس کی دماغی اور ذہنی قوتیں زندگی کی پرہیزگاروں میں اس کی ساتھی نہیں بنتیں۔ وہ یہاں پہنچ کر بے بس ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہیں کسی ہادی کو تلاش کرتی ہیں۔ اگر اس بیچارگی کے عالم میں وہ فطرت کی آواز سن کر اپنے خالق و مالک کے ”نظامِ ہدایت“ جو مختلف ادوار میں انبیاء کی وساطت سے انسانیت کی رہنمائی کرتا رہا کو پہچان لے تو فطرت اُسے فلاح کا پیغام دیتی ہے۔

وہ لوگ جن کے سینے ایمان سے خالی ہیں اور ان کے اعمال قرآن و سنت کے برعکس ہیں بے شک وہ انسان تو ہیں لیکن ”نظامِ وحی“ سے عدم تمسک کی بناء پر نقصان و خسار ان کا مقدر ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنٌ خَسِرٌ - (العصر - ۲)

”بے شک انسان خسارے میں ہے۔“

نقصان کے مقابلہ میں قرآن ”فلاح“ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، اور

”فلاح“ کی شرائط میں تقویٰ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔
سورۃ ”البقرہ“ میں متقی کی چھ صفات بیان کرنے کے بعد ربّ ذوالجلال
ارشاد فرماتے ہیں :-

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(البقرہ : ۵)

”یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں

تقویٰ اور سکون زندگی

کون نہیں جانتا کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں ”قرآن“ سے
بغاوت ہی کا نتیجہ ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو تربیت کے لئے قرآنی سانچوں میں ڈھالتے
ہیں اس کا مطلوبہ کردار جس کو وہ ”تقویٰ“ کا نام دیتا ہے اپنے اندر پیدا کر لیتے تو
یقیناً ہماری زندگی میں اس قدر بے چینیاں نہ ہوتیں بلکہ سکون و آرام سے
دن گزارتے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِّنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
اور جو اللہ سے ڈرے وہ اس کے کام میں آسانی فرمادے گا۔

تقویٰ اور قرب الہی

قرآن مجید میں ارشاد ربّ العزت ہے :-
إِن أَوْلِيَاءَ كَإِلَٰهِ الْمُتَّقِينَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ۝

(الانفال : ۳۲)

”بلاشبہ متقی ہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔“

اگر صحیح معنوں میں پرہیزگاری ہمارا شعار بن جائے۔ خدا کا خوف ہمارے
دلوں میں راسخ ہو جائے تو ”نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
النُّورِ يَدًا“ (ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) کی نوید جاننا آج بھی
قرآن مجید سننا رہا ہے۔ متقی ہی کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد
فرماتے ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (التوبہ: ۷)

بے شک اللہ پاک متقی لوگوں ہی سے محبت کرتا ہے۔

انوارِ الہیہ کے مشتاق کے لئے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ محبوب
مطلوب اپنی توجہ و التفات کے جتنے کا نسخہ خود تجویز فرما رہا ہے۔ کیا یہی وہ
مقام نہیں جس کی خاطر بدر و حنین کے معرکے وجود میں آئے۔ کربلا میں اہل بیت
اطہار کا خون گرا۔ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی۔
اسے بندگانِ خدا! اگر تم بھی چاہتے ہو کہ محبتِ الہی کی سوغات تمہارے حصے
میں بھی آئے تو اپنے آپ میں متقی لوگوں کی صفات پیدا کیجئے۔

تقویٰ اور امتیاز

تقویٰ کے اجتماعی اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ معاشرہ جو ”من
حیث الجماعت“ (پوری جماعت کی حیثیت سے) اپنے آپ کو کتاب و
سنت کے مطابق بنا لیتا ہے۔ اقوامِ عالم میں اس کی شان نرالی اور امتیازی بن
جاتی ہے۔

ارشادِ رب العزت ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَشَقُّوا اللَّهَ يَجْعَلْ

تَكُوْفُرًا قَانًا۔ (الانفال : ۲۹)

اے اہل ایمان! اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لئے امتیاز قائم کر دے گا۔

”امتیاز“ کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اس سے ایک معنی تو یہ بھی لیا جاسکتا ہے کہ تم میں اچھی اور بُری چیزیں امتیاز کرنے کی قوت پیدا فرما دے گا یعنی بصیرت عطا کر دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اقوام میں تمہیں امتیازی شان عطا کر دے۔

تقویٰ اور کشادگی رزق

روٹی، کپڑے اور مکان کا مسئلہ ہر دور میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ قرآن نے معاشی آسودگی بھی اپنی حدود میں قائم رہنے ہی میں قرار دی۔ ارشاد رب العزت ہے۔

”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ“ (اطلاق: ۲-۳)

”متقی کے لئے اللہ تنگی سے نکلنے کے سامان مہیا کرتا ہے، اور اُسے وہاں سے روزی دیتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔“

اسلامی نظام کا مکمل مطالعہ کرنے سے اچھی طرح اس نتیجہ پر پہنچا جاسکتا ہے کہ اسلام کیسے ”معاشی خوشحالی“ دیتا ہے۔

اس کے برعکس ”اعراض عن القرآن“ سے اقوام و ملل کی معاش و معیشت تنگ کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ قرآن نے معاشی تنگی کی وجہ ہی اس

نظام سے بغاوت کو قرار دیا ہے۔
 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔

(طہ : ۱۲۲)

”جس نے ہمارے یاد سے غفلت برتی ہے شک و معیشت
 تنگ ہو جائے گی اور ہم اُسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں
 گے۔“



تشکیل تقویٰ کی بنیادیں

مضبوط ایمان

ایمان کی مضبوطی اور استحکام تعمیر سیرت میں ہر روز نئی آن اور نئی شان پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرب الہی اور اتقاد لازم و ملزوم ہیں تو پھر یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی کہ قرب خداوندی کا پہلا ذریعہ ہی استحکام ایمان ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا کردار اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ ایمان کی کمزوری سیرت و کردار کو کمزور کرتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جب بھی مرد مومن کو کسی عمل اور جہاد کے لئے تیار ہونے کی دعوت دی "ایمان" کا ذکر ضرور کیا۔ وہ تجارتِ عظیم جس کو "عذاب الیم" (وردناک عذاب) سے چھٹکارے کا باعث قرار دیا گیا۔ اس میں بھی سب سے پہلے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہی ذکر کیا گیا۔

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ۔ (الصف : ۱۱)

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرو۔

کردار کی تعمیر

”تقویٰ“ کا ترجمہ اگر عام فہم الفاظ میں کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ تقویٰ ”اسلامی کردار“ کا دوسرا نام ہے۔ یاد رہے کہ تعمیر کردار کے لئے قرآن کثرتِ عبادت کا ایک نسخہ بھی تجویز کرتا ہے۔ مثلاً بے حیائی سے رکنے کے لئے یا صبر کی صفت پیدا کرنے کے لئے نماز کا پڑھنا تجویز کیا گیا۔

انسانی طبائع میں رنج لیس جانے والی مذموم حرکتیں کثرتِ زہد ہی سے عاداتِ حسنہ سے بدلتی ہیں۔

پروردگارِ عالمین ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں :-
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .
 (البقرہ : ۲۰)

”اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے
 لوگوں کو پیدا فرمایا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“

رمضان المبارک کے روزوں کا فلسفہ بھی یہی بیان فرمایا :-
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

(البقرہ : ۱۸۳)

”اے اہل ایمان! تم پر پہلے لوگوں کی طرح روزے فرض کر دیئے گئے
 تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“

تلاش مرشد

ایمان کی حرارت، محبت کی گرمی اور عشق کی تپش شیخ کامل کی وجہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم بھی تعمیر سیرت، پنچنگی، کردار، تشکیل تقویٰ اور آنکھوں سے غفلت کی ٹپیاں دور کرنے کے لئے ”وسیلہ“ ضروری قرار دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدہ : ۳۵)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو۔“

آیت میں وسیلہ سے مراد جہاں کتاب و سنت سے وہاں پیر و مرشد کی توجہ اس کی تلاش اور بیعت ہے تناہ ولی اللہ اور مولوی اسماعیل دہلوی نے اس کی یہی سراہی ہے۔

(قول جمیل، صراط مستقیم بحوالہ ضیاء القرآن)

ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمۃ شیخ کامل کی توجہ کے اثرات ایک جگہ اس طرح بیان کرتے ہیں :-

دم عارف نسیم بیج دم ہے
اسی سے ریشہ یعنی میں نم ہے
اگر کوئی ضعیب آئے پیر
شہانی سے کلہی دو قدم ہے

غز و نکر

تقویٰ اسلام کی روح ہے اور اسلام دینِ فطرت ہے اس کی حقانیت

لامحالہ ہر اس ذہن کو تسلیم کرنی پڑتی ہے جو تعصب کی پٹی اتار کر صحیح منطوق پر غور و فکر کرے۔ قرآن جو ایک الہامی کتاب ہے وہ صرف اپنے قاری کو تلاوت ہی کی دعوت نہیں دیتی بلکہ فکر اور تدبیر کرنے کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غور و فکر سے انسانی ضمیر زندہ ہوتا ہے اور حقائق کو تسلیم کرنا سیکھتا ہے جب قلب و جگر اور دل و دماغ کسی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے تقاضے پورے کرنے پھر مشکل نہیں رہتے۔

تقویٰ چونکہ اسلام کا تقاضا ہے، اس لئے اس کی تشکیل بھی غور و فکر کا مرہونِ منت ہے۔

قرآن کی دعوتِ فکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :-

۱- کتاب

۲- نفس

۳- آفاق

قرآن سے استدلال

۱- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا ۝

(بنی اسرائیل : ۲۱)

”بلاشبہ ہم نے قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا تاکہ نصیحت حاصل کریں“

۲- هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ

شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ

وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَا يَأْتِيهِمْ يَتَفَكَّرُونَ ه (النحل : ۱۰، ۱۱)

”وہ ذات جس نے تمہارے لئے آسمان سے پینے کے لئے پانی اتارا
تم اُس سے (اُگنے والے) درختوں سے چراتے بھی ہو (وہ ذات)
جو تمہارے لئے اس سے کھیتی اگاتا ہے۔ زیتون، کھجور، انگور
اور ہر قسم کے پھل۔ بلاشبہ اس میں فکر کرنے والی قوم کے لئے
نشانی ہے“

۳۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ أَتَسْفَهُونَ اللَّهُ ج فَقُلْ
أَفَلَا تَتَّقُونَ ه (يونس : ۳۱)

”ان سے پوچھو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق کون دیتا ہے۔ سماعت
اور بصارت کی قوتوں کا مالک کون ہے۔ بے جان سے جاندار کو
اور جاندار سے بے جان کو کون نکالتا ہے۔ اس نظام کائنات کی
تدبیر کون کر رہا ہے۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ پس کہہ دو تم کیوں تقویٰ اختیار
نہیں کرتے“

۴۔ سورت غاشیہ میں ایک مقام پر غور و فکر کی دعوت اس انداز میں دی گئی
أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ه وَإِلَى الْجِبَالِ
كَيْفَ نُصِبَتْ ه وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ه
(الغاشیہ : ۱۷ تا ۲۰)

”کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیونکہ پیدا ہوئے اور آسمان کیو کہ کیسے
بلند کیا گیا۔ پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑے گئے ہیں اور زمین
کو کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔“

علم شریعت کا ہونا

تقویٰ کا تعلق چونکہ شریعت سے ہے۔ اس لئے ہر متقی اور پیرہیزگار شخص کے
لئے ضروری ہے کہ وہ شریعت کا مکمل علم رکھتا ہو یا اگر زیادہ نہیں تو کم از کم
جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا علم رکھنا تو از حد ضروری ہے۔

تقویٰ کا بلند ترین مقام عرفان رب ہے جسے فقر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے
حضرت باہو علیہ الرحمۃ اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔

علموں باج جو کرے فقیری : کا سر مرے دیوانہ ہو

خداوند کریم امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزار ہا اُن فریب کاروں سے
بچائے جو طریقت کو شریعت سے الگ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں حالانکہ
حقیقت یہ ہے۔

اگر بہ اونر سیدی تمام بولہبیت

اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے خواہ وہ کتنا ہی
دلکش کیوں نہ ہو نفس کی کرشمہ سازی کے سوا کچھ نہیں۔

خوف خدا

”تقویٰ“ پیدا کرنے کے لئے خوفِ خدا کا ہونا بھی اشد ضروری ہے لیکن
خوف کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ امید ختم ہی ہو کر رہ جائے۔ ایک حدیث کے

مطابق ایمان، خوف اور امید کے درمیان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ :-

”اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے کہ جنت میں صرف ایک ہی شخص داخل کیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ لیکن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ دوزخ میں صرف ایک ہی آدمی داخل ہوگا تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ وہ آدمی کہیں نہیں ہی نہ ہوں۔“

خوفِ خدا کے لئے آخرت، موت اور قبر کا فکر ضروری ہے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ مرغِ ذبح کرتے ہوئے رو رہا تھا اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا تھا کہ بے زبان اور غیر مکلف چیز مرتے ہوئے اگر اتنی تکلیف میں مبتلا ہے تو گناہ گار انسانوں کا کیا حال ہوگا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا اور آپ خوفِ خدا سے کبھی گھر سے باہر آتے اور کبھی اندر جاتے۔ جب بارش ختم ہو جاتی تو آپ مسرور ہو جاتے۔

فطرتِ انسانی میں یہ بات داخل ہے جب اُسے کسی بات کا خوف ہو تو عمل کی قوت اس میں تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے۔ البتہ خوف کی نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں۔

اسلام بھی اپنے ماننے والوں کو ایک غائب ہستی کی باز پرس سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس خوف کا اثر یہ ہے کہ کسی پولیس یا محتسب کی غیر موجودگی میں بھی انسان ایسا کام کرنے سے رُک جاتا ہے جس سے اس کے رب کی نافرمانی ہوتی ہو اور خلقِ خدا کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

خوفِ آخرت

ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-
 "اللہ تعالیٰ کو ان آنسوؤں سے پیار ہے جو خوفِ الہی سے جاری
 ہوتے ہیں۔" (مشکوٰۃ شریف باب الجہاد)

ایک بزرگ نے ایک روتے ہوئے لڑکے سے رونے کا سبب دریافت کیا
 تو اُس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رو رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، خوف
 کا سبب کیا ہے؟ تو اُس نے کہا کہ کتابِ حکیم میں ارشادِ ربِّ العزت ہے :-
 فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(البقرہ : ۲۴)

ڈرو اُس آگ سے جس کا ایندھن (گناہگار) لوگ اور پتھر ہیں۔
 میں سوچتا ہوں کہ جب میری ماں آگ جلاتی ہے تو چولے میں بڑی لکڑیوں
 کو آگ لگانے کے لئے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے تاکہ آسانی سے
 آگ روشن ہو جائے۔ اگر خداوندِ کریم نے بھی جہنم میں بڑے بڑے نافرمانوں کو آگ
 میں ڈالا تو مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے گناہگاروں کو بھی کہیں آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔
 مولانا رومی کا ایک شعر ہے :-

ہر کجا آبِ رواں غنچہ بود

ہر کجا اشکِ رواں رحمت بود

جہاں پانی چلتا ہے وہاں باغات ہوتے ہیں اور جہاں آنسو جاری ہوں

وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خوفِ الہی سے رو یا کرو۔

اگر ردنا نہ آتے تو رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو۔
خوفِ خدا کے بارے میں قرآنِ حکیم میں ربِّ ذوالکمال ایک جگہ ارشاد
فرماتے ہیں :-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

(التذات : ۴۰، ۴۱)

اڈز جس نے اپنے رب کے سامنے حاضر می کا خوف رکھا اور اپنے
آپ کو خواہشات سے باز رکھا۔ بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔

دُعا

اسلامی اور روحانی زندگی میں طلب اور جستجو کا ایک خاص مقام ہے۔ ہدایت
اور گمراہی ہر دو میں جانب اللہ ہی ہوتے ہیں۔ مرد مومن کو چاہیے کہ وہ ہر
وقت خدا کی چوکھٹ پر پڑا رہے۔ اُس سے سوال کرتا رہے۔ اسی داتا کی
عطا سے رنگ آلود دل پاک ہوتے ہیں۔ مخلوق کو خالق کا قرب مقصود
حاصل ہوتا ہے۔

یہ بات مسلمہ ہے کہ عبادت سے ”تقویٰ“ کی تشکیل ہوتی ہے اور دعا کے
بارے میں رؤف رحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ - (رواہ ابوداؤد)

دُعا ہی عبادت ہے۔

ایک حدیث کا مضمون یہ بھی ہے کہ

”دُعا عبادت کا مغز ہے“

آقا کے ان دو اقوال سے پتہ چلا کہ دعائیں اگر عجیب و نیاز مندی شامل ہو، اور دعا گوریا و نمود سے اجتناب کر کے رب ذوالجلال کو پکارے تو اس کی تاثیر عبادت عامہ سے زیادہ ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تشکیل تقویٰ کے لئے صدق طلب کا ہونا ضروری ہے۔ رشد و ہدایت کے نور کے حصول کے لئے خود بھی دعا کرنی چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعا کروانی چاہیے اس لئے کہ یہ حقیقت ہے کہ سب نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

استقامت

استقامت سے مراد لزوم طاعت ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے سارے امور کا نظام درست رکھنا استقامت کہلاتا ہے۔ ایمان کے بعد استقامت کی اہمیت کا اندازہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بار آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ آقا و مولانا نے ارشاد فرمایا:-

قُلْ أَمِنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْتُ

کہہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ پھر استقامت اختیار کر۔

صوفیاء کا مسلک ہے کہ استقامت اور استقلال کرامت سے بھی زیادہ اہم شے ہے۔ اہل ایمان کے اسی وصف کو قرآن مجید نے ایک مقام پر یوں بیان فرمایا:

إِنَّ السَّيِّئِينَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا

ذَلَالَتَهُمْ عَلَىٰ اللَّهِ يَخْزَنُونَ ۝ (الاحقاف: ۱۳)

”بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر
ثابت قدم رہے۔ نہ ان پر خوف نہ ان کو غم۔

(الاحقاف : ۱۳)

استقامت کا آسان تر مفہوم ثابت قدمی کا ہے۔ تقویٰ کا تعلق چونکہ
اجتناب معاصی اور حلیتِ اوامر سے ہے۔ اس لئے حصولِ علم کے بعد تقویٰ کے
ثمرات دیکھنے کے لئے صبر اور ثبات کا ہونا اشد ضروری ہے۔



تقویٰ کے تقاضے

شُرک سے اجتناب

تقویٰ کا اولیٰ تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے اجتناب کیا جائے۔ کیونکہ انبیاء کا پہلا درس ہی توحید کا اثبات اور شرک کی نفی ہے۔

شرک کے بارے میں قرآنی رویے کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔

- ۱- شرک ناقابلِ معافی جرم ہے۔ (النساء : ۲۸)
- ۱- شرک کرنے سے پہلے کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ (الانعام : ۸۹)
- ۲- شرک سے آدمی بزدل ہوتا ہے اور مشرک کا انجام جہنم ہے۔ (آل عمران : ۱۵۱)
- ۳- شرک جہالت ہے۔ (الاعراف : ۱۳۸)
- ۵- شرک ظلمِ عظیم ہے۔ (لقمن : ۱۳)
- ۶- مشرک خواہشاتِ نفس کے غلام ہوتے ہیں۔ (النجم : ۲۳)
- ۷- بدترین مخلوق مشرک ہے۔ (البینہ : ۶)

نظامِ عبادات کا قیام

اصلاحِ عقائد کے بعد عملی زندگی کے میدان میں جس چیز کی اولیٰ ضرورت

ہے۔ وہ نظام عبادت کا قیام ہے۔ تقویٰ کے تقاضوں کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ تخلیق انسانیت کی علت معلوم کی جائے اور وہ یہ ہے کہ۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

الزّاریت : ۱۵۶

”ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لئے“

عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اس میں ہر وہ چیز آجاتی ہے جس کے کرنے اور باز آجانے سے رہنمائے رب کا پروانہ ملتا ہو لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلامی نظام عبادت کی بنیادیں ہیں۔ ان میں سے بھی نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ روزِ محشر اولین پرکشش اسی کے بارے میں ہوگی۔

روزِ محشر کہ جان گداز بود
اولین پرکشش نماز بود

ذکرِ الہی میں مشغولیت

اللہ کا ذکر دلوں کو صاف کرتا ہے۔ بد اعمالیوں اور بد عقیدگیوں سے نجات دلاتا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی سے منع کرتا ہے۔ انسانی کردار کو نکھارتا ہے۔ مزاج میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ سیرت میں حسن لاتا ہے۔ طبیعت کو استغنا بخشتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کثرتِ ذکر سے انسان قربِ الہی کی منزلوں کا راہی بن جاتا ہے۔

ذکر اللہ کے بارے میں قرآن کا ارشاد سنئے :-

وَلَذِكْرِ اللَّهِ الْكِبْرُ مَا

العنکبوت : ۲۵

”اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے۔“

ذکر کیا ہے؟ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں لگائے رکھنا، تصور میں اُس حاکم مطلق کو یاد کرنا، احکام الہی پر کار بند رہنا قرآنی تعلیمات کا پرچار کرنا یہ سبھی ذکر اللہ کی اقسام ہیں۔

حاکمیتِ خداوندی پر اگر مکمل یقین نہ ہو اور ہر فعل میں رضائے الہی کا جوہر شامل نہ ہو تو مقصود عبادت اور مددِ غائے زلیست پورا نہیں ہوتا۔

فکرِ آخرت

ہمیشہ انجام پر نگاہ رکھنے والے لوگ ہی ہر میدان میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ انسان کا انجام فنا نہیں بلکہ فنا کے بعد ایسی بقا ہے جس میں دنیا میں کئے جانے والے ہر عمل کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

نعم دار فرصت کہ عالم دے است

دم پیش عالم بہ از عالمے است

آخرت کی فکر کر کے اپنے اعمال و افعال کا محاسبہ کرنا بھی تقویٰ کا تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ ارشادِ رب العزت ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُنْتُمْ

نَفْسًا مَّا سَدَّمْتُمْ لِعَدِّجٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ۱۸)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اُس نے

کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ وہ یقیناً تمہارے

اعمال سے باخبر ہے۔“

اس آیت کریمہ میں آخرت کی زندگی کو ”کل“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گویا دنیا

کی پوری زندگی ”آج“ ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو کل کی فکر میں اپنی چند روزہ زندگی کو اعمالِ صالحہ سے مزین کر رہے ہیں۔

اصلاح معاشرہ

کون نہیں جانتا کہ انفرادی زندگی کے اثرات اجتماعی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ تقویٰ جس کا تعلق اگرچہ مجموعی طور پر فرد ہی سے ہے لیکن اجتماعی اصلاح بھی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب کہ اسلامی معاشرے سے متعلق ہر شخص متقی ہو۔

تقویٰ اگر ایک طرف انفرادی کردار کی تعمیر کرتا ہے تو دوسری طرف اجتماعی کردار کی تشکیل یعنی اصلاح معاشرہ کی راہیں بھی ہموار کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی اخوت اور برکت مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے کسی اور نظام کے پیروکاروں میں نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”اصلاح بین المسلمین“ مسلمانوں کی اصلاح کو تقویٰ کا تقاضا قرار دیا ہے۔

اِنَّ سَاَلُوْا مِّنْ اَخْوَتِهِمْ فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُنَّ
اَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

(الحجرات ۱۰)

”مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں میں اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

تقویٰ کے اس تقاضے یعنی مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی درستگی کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی واضح ہوتی ہے کہ:-

”وحدثت نعا، ابن بشیر فماتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ تو مومنوں کو باہمی رحم و ملی، محبت اور ارتباط میں
ایک بدن کی مثال دیکھے گا کہ جسم کا اگر ایک عضو کسی تکلیف
میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی کا شکار ہو
جاتا ہے۔“

اس قسم کا ایک اور مضمون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: مسلمان مسلمان
کا بھائی ہوتا ہے۔ وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو چھوڑتا ہے اور نہ
ہی اس کی تحقیق کرتا ہے۔ ”تقویٰ یہی ہے“ سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ
فرمایا۔ مزید ارشاد فرمایا: ”انسان کے لئے یہی شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی
کی تحقیق کرے۔ ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔“

اتحاد و ملت

کسی قوم کی سب سے بڑی خوش قسمتی اور سعادت یہ ہوتی ہے کہ اس کی
صفوں میں مکمل اتفاق و اتحاد ہو۔ افتراق و انتشار سے اسے نفرت ہو۔
یہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس سے قومی زندگی کو بقا حاصل ہوتی ہے اور
اسی کی وجہ سے ملی عزت اور وقار پائندہ و تابندہ رہتے ہیں۔ بخلاف اس کے
نشست و افتراق سے حیاتِ ملی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور قومیں تباہی کے
گڑھے میں گر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ایک مقام پر جہاں تقویٰ
کا ذکر کیا ساتھ ہی اتحادِ باہمی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے فوائد سے آگاہ فرمایا
اور بے اتفاقی کو جہنم کا گڑھا قرار دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

وَلَا تَسْمُونَهُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَ
 اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
 وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
 أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
 بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا
 حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ ۝

(آل عمران: ۱۰۱ تا ۱۰۳)

”اے ایمان والو! اور اللہ سے جیسے کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور نہ مرو مگر مسلمان ہی ہو کر۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تفرقہ نہ کرو۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اُس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت پیدا کی اور تم اُس کے احسان سے بھائی بھائی ہو گئے۔ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ پس اُس نے اس سے بچایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لئے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔“

ہر وہ قوم جو اپنے مقصدِ حیات سے منحرف ہو کر اصولوں کو ترک کر کے جزئیات و فروعات میں الجھنے کی کوشش کرتی ہے اُس کے ہاں بگاڑ کا ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے اور جب کوئی ملت تفرقہ کا شکار ہو جاتے تو اس کی اصلاح و تعمیر کا ہر امکان معدوم ہو جاتا ہے۔

مسلمان کئی بار اس الہامی اصول کے نتائج و عواقب دیکھ چکے ہیں۔

چودہ سو سال کی تاریخ میں کئی بار ایسے ہوا کہ لوگ باہمی عداوتوں کا شکار ہوئے
راتے کے اختلاف سے بڑھتے بڑھتے پہلے مکتب خیال بنے پھر فرتے بنے اور
پھر اللہ کی انتقامی کارروائی کے شکار ہوئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عرصہ
میں کسی کو بندہ نہیں بنایا گیا۔ آسمان سے کوئی چنگھاڑ یا چیخ نازل نہیں ہوئی،
پتھروں کی بارش نہیں کی گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کے بارے
میں یہ قانون فطرت بدل گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
دامنی شفقت اور رحمت ہے جس کے زیر سایہ مسلمانوں پر اس قسم کا عذاب نازل
نہیں ہو سکتا ورنہ کسی نہ کسی صورت میں ان کو بھی جھنجھوڑا گیا۔

غلبہ، استیلاء، خلافت اور تسمکن فی آکارض کی نعمتیں ان
سے چھپنی گئیں۔ غلامی کے عذاب میں انہیں گرفتار کیا گیا اور آج بھی کتنے ہی
مسلمان عملی طور پر یا نظریاتی اور تہذیبی لحاظ سے غلامی کی سکیاں بھر رہے
ہیں۔ کیا اس سے بڑا عذاب بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ دنیا میں غلامی سے بڑھ کر
بھی کوئی ذلت اور رسوائی ہو سکتی ہے۔

تفرقہ اور اختلاف کے جرمِ عظیم پر ذرا خالق کائنات کی ناراضگی کا
اندازہ کیجئے :

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۚ فَتَقَطُّوا
أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ
بِمَالِدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۚ فَنَدَّوْهُمُ فِي
غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۚ

(المومنون : ۵۲ تا ۵۴)

”یہ تمہارا دین تو ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ پس تقویٰ اختیار کیجئے وہ جنہوں نے دین میں مختلف طریقے بنا لئے ہر ایک اپنے ہی طریقے پر خوش ہے۔ پس (اے نبی) چھوڑیے ان کو ایک مدت تک غفلت ہی میں پڑے رہیں۔“

مسلمانانِ عالم کی فوز و فلاح، کامیابی و کامرانی، عزت و وقار، حیات و بقا اسی میں ہے کہ وہ ایک رہیں۔ فروعی اختلافات کو ترک کر کے ایک دوسرے کی طرف رفاقت کا ہاتھ بڑھائیں۔

تقویٰ جو اسلامی کردار کا نام ہے۔ اس کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان حسب و نسب کے امتیاز مٹا کر وحدت کی لڑی میں پروٹے جائیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر مسلمانوں نے اس عظیم حُرْم سے خلاصی حاصل کر لی تو ان کی عظمت و اقتدار کے ترانے ارض و سما پر گونجیں گے۔

شعائر اللہ کی تعظیم

قرآن حکیم میں ارشادِ ربِّ العزّت ہے :-

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُتُوبِ ۝ (الحج : ۳۲)

”اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔“

شعائر میں ہر وہ چیز شامل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ خود مقرر کرے یا اس کے انبیاء مقرر کریں یا اس کی نسبت اللہ کے کسی صالح بندے سے ہو جائے۔ اس سے تبرکات بزرگانِ دین سے محبت اور ان کے احترام کا سبق بھی ملتا ہے۔ اس لئے کہ محبتِ مطلق کسی شے سے نہیں ہوتی بلکہ اس لئے

کہ اُس کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔
مثلاً حجرِ اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ وہ پتھر ہے بلکہ اس
لئے کہ اُس کا تعلق اور نسبت اللہ کے ساتھ ہے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اُسے بوسہ دیتے رہے۔

قرآن مجید میں ایک مقام پر وارد ہوا ہے :-
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ -

(البقرہ : ۱۵۸)

بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ سے ہیں۔
ان پہاڑوں کا شعائر ہونا بھی اولیاء و انبیاء سے نسبت ہی کی وجہ
سے ہے۔

احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ایک آدمی تقویٰ کا ہر تقاضا پورا کرتا ہے لیکن احترامِ رسول کے جذبات سے
اگر اس کا سینہ خالی ہے تو وہ عند اللہ مابور نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے تمام اعمال
ختم کر دیئے جاتے ہیں۔ اخروی کامیابی کا اصل راز یہ ہے کہ دل کو محبتِ محمدی صلی اللہ علیہ
وسلم کے جذبات سے سرشار رکھے۔ محبتِ محبوب کے پھر فعل کے احوال کے
لئے قربانی چاہتی ہے۔ آج کے حالات ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم تحریکِ
مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکن بن کر احکامِ الہی کے نفاذ کے
لئے کوشش کریں۔ اور زندگی کے ہر میدان میں صابغہِ خداوندی سے
رہنمائی حاصل کریں۔

وہ لوگ جو بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن ان کے دل محبتِ رسول اور احترامِ نبیؐ

کے جذبات سے غاری ہیں۔ ان سے بصد ادب و احترام گزارش ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ علمی ذوق پورا کرتے کرتے ایمان سے بھی ماتھ دھونے پڑ جائیں۔

لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَ اتَّقُوا اللَّهَ ط (الحجرات ۱۱)

”اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔“
احترام کے لئے عند الرسول اپنی آوازوں کو پست رکھنے والوں کے متعلق فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ

رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ

اللَّهُ فُتُوهُ بِهِمْ لِتَتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ط (الحجرات ۳)

وہ بلاشبہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات

کرتے ہوئے اپنی آواز کو دھیمار کھتے ہیں۔ اصل میں وہی لوگ

ہیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لئے چن لئے ہیں ایسے لوگوں

کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔“

معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ کی جان اور پیرہیزگاری کی روح محبت رسولؐ اور

احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

اس سے ایک یہ مسئلہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اپنے شیخ اور

استاد کا احترام کرنا اور ان کے سامنے موذبانہ گفتگو کرنا بھی تقویٰ کا ایک

تقاضا ہے۔

قیامِ عدل

اسلام ایک عالمگیر تحریک کا نام ہے جس کا مقصود و منشور عالم انسانیت میں نیکی کا نظام قائم کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے یہ تحریک اپنے ہر رکن سے ایک مخصوص کیریٹر کا تقاضا کرتی ہے جسے تقویٰ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

تقویٰ جہاں انفرادی اور اجتماعی تعمیر و تظہیر کا نام ہے، وہاں اس کا ایک گہرا ربط تحریکِ اسلام کے منشور سے بھی ہے۔ مثلاً قرآن مجید نے جہاں عادات و اطوار اور رسوم و طرق کی اصلاح کو تقویٰ قرار دیا۔ اسلام کے منشور و مقصود تک رسائی حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرنا بھی تقویٰ کا تقاضا قرار دیا۔

تعمیر کی ضد تخریب ہے۔ جب تک کوئی قوم قوانینِ فطرت کی پابند رہتی ہے اس کی رگوں میں تعمیری خون گردش کرتا رہتا ہے۔ گویا کہ بناؤ قانونِ عدل کی پابندی میں ہے اور بگاڑ اس صراطِ مستقیم سے ہٹ جانے کا نام ہے۔

مسلمان چونکہ خیر و مصلحتی کا نظام دنیا میں رائج کرنا چاہتا ہے۔ انسانیت کو بناؤ کا سبق دینا چاہتا ہے۔ تخریبی جراثیم کا خاتمہ اس کا مدعا ہے۔ غرض کہ مسلمان کا یہی کیریٹر تقویٰ اُسے قیامِ عدل کے لئے تیار کرتا ہے۔

وَلَا يَجْرُ مَنَّكَدُ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ

تَعْدِلُوا إِذْ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدہ: ۸)

”اور تمہیں کسی عزم کی دشمنی عدم عدل پر نہ اکسائے۔ عدل کیجئے اور اللہ سے ڈریے اور یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ بلاشبہ وہ تمہارے اعمال سے خیر دار ہے۔“

عدل کے لئے اردو زبان میں لفظ ”انصاف“ استعمال ہوتا ہے اگرچہ معانی اور مطالب کے لحاظ سے ”انصاف“ میں وہ زور نہیں جو ”عدل“ میں ہے۔ اگر عدل کا معنی ”توازن“ کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ عالم رنگ و بو میں پروردگار کے تمام تر امور عدالت ہی کے ساتھ قائم ہیں یعنی عدل ہی وہ قانون ہے جو قیام ہستی کے لئے ضروری ہے۔ اس مقام پر دائرہ عدل و بیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے۔ معاملات، مقدمات، نظامِ شہسی سیاروں کی حرکت موسمی تغیر و تبدل اور تخلیق انسانیت و تکوین اشیاء عالم تک ہر ایک ہی تعادل و توازن کی مختلف مثالیں ہیں۔۔۔

ظلم ہو یا سرکشی، اسراف ہو یا تبذیر، فساد ہو یا اعتدال نظامِ عدل سے ہٹی ہوئی یہی وہ صورتیں ہیں جن کے عالمین کو قرآن نے کبھی تو شیطان کا بھائی کہہ کر پکارا اور کبھی اس سے بدلتی بدلتی کوئی اور اصطلاح استعمال کی۔

قرآن نے حقیقت عدل کے رموز سے آگاہی کے لئے اکثر مقامات پر غور و فکر کی دعوت بھی دی اور توازن اور تعادل کو مقصود ٹھہرایا اور صاف صاف کہہ دیا کہ جب تم بغیر ستونوں کے اٹھائے ہوئے آسمان کو دیکھتے ہو۔ جب تم اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہو کہ جو سے جو اور گندم سے گندم ہی پیدا ہوتی ہے تو پھر روزمرہ میں عدل سے انحراف کیوں؟

اعْدِلْ لَوْ اَنَّ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی

”عدل کرو عدل ہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔“

انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، مسائل سیاسی ہوں یا معاشی ہماری کامیابی کا راز اسلام کے نظام عدل ہی میں ہے اس لئے کہ یہ نہ تو جو اس خمسہ کی تخلیق ہے اور نہ ہی وجدان کی پیداوار بلکہ منزل من اللہ ہونے کی حیثیت سے یہی وہ ضابطہ حکمت ہے جسے اپنانے سے انسانیت عروج کے زینے طے کرتی ہے۔ اگر آج ہماری عدالتوں میں اسلام جو دین فطرت ہے اس کا قانون عدل لاگو اور قابل عمل نہیں تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ہمارے قانون دانوں کے نزدیک وہ قانون اس قابل نہیں کہ ان کے مسائل حل کر سکے۔ اگر ایسے نہیں تو نفاذ میں اتنی تاخیر کا مطلب کیا ہے؟

برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے ایک گہری سازش کی کہ مسلمانوں میں کچھ آدمی ایسے تیار کئے جنہوں نے قوم و ملت میں یہ تبلیغ شروع کر دی کہ دین صرف چند عبادات کا نام ہے حالانکہ اسلام ضابطہ کائنات ہے جو زندگی کے ہر گوشہ میں رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

بقول شاعر :-

جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

وفا شعاران اسلام !

اگر آپ امن و سکون چاہتے ہیں، اگر آپ کی خواہش زندگی کی راحت و آرام ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ اسلام کے نظام عدل کی طرف لپکیں اور اس طرح تمہاری دعوت سے اہل جہاں جو جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور اپنی شیطانوں اور غفلت شعار یوں سے معاشرہ کو ہنسہم زار بنا دیا ہے۔ اسلام کے انقلابی منشور سے آگاہی حاصل کریں۔

رسوم محض سے اجتناب

کون نہیں جانتا کہ آج ہمارے معاشرے میں محض تقلیدی بنیادوں پر بہت سی ایسی رسوم کا آغاز ہو چکا ہے جو قیام دین کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ روایتی عظمتوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ پہلے ایک عقیدہ گھڑا جاتا ہے۔ پھر اس کی پرستش متواتر سے اس میں شانِ تقدیس پیدا کی جاتی ہے اور بعض ایسی رسمیں ہیں جن میں سوائے ضیاعِ دولت کے اور کچھ نہیں ملتا۔ قرآن مجید ان سب باتوں کی تردید کرتا ہے بلکہ ان کے ترک کرنے کو تقویٰ کا تقاضا قرار دیتا ہے۔

عربوں کا دستور تھا کہ جب وہ احرام باندھ لیتے اور گھروں میں آنے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ پچھلی دیواروں سے سوراخ کر کے داخل ہوتے۔ چونکہ یہ رسم محض تھی، اس لئے قرآن نے اسے ایک لایعنی حرکت قرار دیتے ہوئے اس کے ترک کرنے کو تقویٰ کا تقاضا قرار دیا۔ ارشادِ ربّی ہے :-

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۝ (البقرہ ، ۱۱۸۹)

”اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی طرف سے داخل ہو بلکہ نیکی تو تقویٰ اختیار کرنا ہی ہے گھروں میں دروازوں کی طرف سے آنا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ۔“

ہمارے ہاں بچوں کی پیدائش پر، شادیوں کے رچانے میں اور ماتم کے موقع پر بعض نہیں بلکہ بے شمار ایسی رسمیں منائی جاتی ہیں جن کا تعلق اصل میں یا تو ہندوؤں سے ہے یا انگریزوں سے۔ قرآنی تعلیمات کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان مذموم رسوم و اطوار کو غیرت مذہبی کو کام میں لاتے ہوئے صرف خود ہی ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسرے حضرات جن کی سرشت میں ایسی عادات داخل ہیں انہیں بھی مجبور کیا جائے کہ تقلید غیر سے باز رہیں اور شیطان کو خوش نہ کریں۔

البتہ بعض دیہاتوں میں بعض لوگوں کو دینی اصولوں کا پابند دیکھ کر نہایت مسرت محسوس ہوتی ہے اور ان کے جذبہ دین کو داد دینا پڑتی ہے۔ فی الحقیقت اسلام ایک سادہ اور قابل عمل دین ہے۔ یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اسے کسی رسم کے پیوند کی ضرورت نہیں۔ رسوم پرست لوگ خود بھی ان سے تنگ ہیں۔ لیکن ان کے ضمیر کی آواز جب جذبہ نمائش کی نذر ہو جاتی ہے تو وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کا من اجازت دیتا ہے۔

غیر اقوام کی تقلید سے بیزاری

مسلمان کسی قوم یا ملک کا نام نہیں۔ بلکہ یہ اللہ کی وہ جماعت ہے جس کا منشور نیکی کو غالب کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے اس کا اپنا ایک پروگرام ہے۔ اس کے پاس زندگی گزارنے کے اپنے اصول ہیں۔ ہر وہ آدمی جو اس کے اصولوں کو کسی بھی میدان میں ٹھکراتا ہے، تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کے پروگرام سے متفق نہیں۔ اس کو وہ اصول اچھے نہیں لگتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کئے تھے۔

تقدیمی کا تقاضا یہ ہے کہ ان اصولوں کو نہ اپنایا جائے جو اسلام سے
ٹکڑے کھاتے ہیں۔ ان باتوں پر کان نہ دھرے جائیں جو غیر اقوام "نظام مصطفیٰ"
کو ختم کرنے کے لئے کرتی ہیں۔ غیر قوموں کی تقلیدی زنجیریں اپنے پاؤں میں
نہ ڈالی جائیں اور غلامی سے اپنی گردنوں کو بچایا جائے۔

اگر ایک آدمی دین کو سیاسی لحاظ سے تھائیو کریسی یعنی پاپائیت کا نام بھی
وے۔ مسجد کو بھولے سے بھی نہ آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں
کا مذاق بھی اڑائے اور پھر اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھے اور اپنی حرکات کو
قابلِ نجات خیال کرے تو یہ مسئلہ ناقابلِ فہم ہے۔

نجات اگر ہے تو صرف اس میں کہ امتھاری صرف اللہ اور اس کے
رسول کی مانی جائے۔ ہمارا قرآن جب ہر اس معاملہ میں ہماری رہنمائی کرتا
ہے۔ جس میں ہماری بہتری ہے۔ تو پھر اس نظام کے مقابلہ میں ہمارے دل
فسانے کیوں تراشتے ہیں۔ ہماری جبینیں شیطانوں کے سامنے کیوں جھکتی
ہیں۔ ہمارے ہاتھ خود ہی آذری کاشیوہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔

افسوس صد افسوس کہ شاہیں نہ بنا تو

دیکھے نہ ترمی آنکھ نے فطرت کے اشارات

تقدیر کے قاضی کا یتوی ہے ازل سے

ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات

آج بھلائی کی بھیک کے لئے ہم کشکول لئے کافروں اور منافقوں کے
دروازوں پر پھرتے ہیں۔ آج ہماری اطاعت کا معیار لا دین عناصر کی خوشامد
بن چکا ہے۔

ارشادِ رب العزت ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ
الْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

(الاحزاب : ۱)

”اے نبی! اللہ سے ڈرو اور نہ اطاعت کرو کافروں اور منافقوں

کی تحقیق اللہ علم و حکمت والا ہے“

اس آیت میں جاہلیت کی رسوم پر ضرب کاری لگائی گئی ہے اور منافقین

اور کفار کی اطاعت سے منع فرمایا گیا ہے۔

اللہ کرے ہم انگریز کی اطاعت سے خلاصی حاصل کر لیں ورنہ معاش ہو یا

معیشت، سماج ہو یا سیاست، فوج ہو یا کوئی اور ادارہ ہمارا ہر فعل غیر اقوام

کی تقلید میں ہے۔

وعدے کی پابندی

وعدے کی نوعیت نجی ہو یا کاروباری، عہد اللہ سے کیا جائے یا مخلوق

سے، بہر صورت اس کی پابندی کرنا تقویٰ کے تقاضوں میں سے ہے۔

قرآن نے ایک جگہ یہود کے بارے میں ان کی عہد شکنی کی بدولت

ہی کہا ہے۔

الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنكُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ

عَاهِدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝

(الانفال : ۵۶)

وہ لوگ جن سے تو نے عہد کیا۔ ہر مرتبہ اس کو توڑتے ہیں اور خدا سے

ڈرتے نہیں۔“

سورہ توبہ میں ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے بھی وعدہ پورا کرنے کو کہا گیا ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

فَاتَّسُوا إِلَيْهِمْ وَعَهْدُهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ ط

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ (التوبہ : ۴)

”ان سے وعدوں کی مدت کے مطابق پورا کرو جسے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔“

سورہ نائدہ میں ارشادِ باری ہے :-

”اے مومنو! اپنے بندھے ہوئے وعدوں کو پورا کرو“

ایک مقام پر آتا ہے :-

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا -

یعنی ”وعدے کے بارے میں پرسش ہوگی۔“

حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وعدے کی پابندی کی اور ساتھ ہی اپنے پیروکاروں کو ایفائے عہد کی تلقین کرتے رہے۔ آپ کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ :-

لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ -

”اس کا دین نہیں جس کا عہد نہیں۔“

ایک موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ بدر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ قلتِ تعداد کی وجہ سے ایک ایک آدمی کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ دو صحابی حضرت حذیفہ اور حضرت حسیل منجنہوں نے مشرکین سے عدم شرکت کا وعدہ کر لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

ساری داستان سنائی تو آپ نے ان کو مدینہ بھیج دیا اور فرمایا ہم وعدے کی پابندی کریں گے۔

عہد کو پورا کرنا بھی تقویٰ کے لوازمات میں سے ہے اور متقین کا شعار ہے۔

وعدہ کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے کہ کیا جانے والا وعدہ کہیں اسلامی شریعت کی رُوح کے خلاف نہ ہو بلکہ زبان سے ہی ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہئیں۔ جن پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ اسلام نے اس بات سے بھی منع کیا ہے۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو جو تم نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ یہ اللہ کے ہاں بڑے غصے کی بات ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۗ

(الصف : ۲)

”اے ایمان والو! کیوں کہتے ہو، جو تم کرتے نہیں۔“

واللہ اعلم بالصواب

اصول تعاون

اسلام کا مقصد نیکی اور بھلائی کو برائیوں پر غالب کرنا ہے۔ اس لئے یہ اپنے ہر ماننے والے کو اس بات پر اکساتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے۔

قرآن مجید نے اس سلسلہ میں ایک زہدین اصول قائم کیا ہے :-
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (المائدہ : ۲)
 ”نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی
 میں باہم ہاتھ نہ بٹاؤ۔ اللہ سے ڈرو بیشک اللہ کا عذاب بہت
 سخت ہے۔“

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی انقلابی گروہ کی کامیابی یا ناکامیابی کا
 دار و مدار، تعاون اور عدم تعاون پر ہی ہوتا ہے۔ اگر نیک کام میں تعاون
 نہ کیا جائے تو جن مقاصد کے لئے کوئی تحریک چلائی جاتی ہے۔ ان کا پورا
 ہونا کافی حد تک ناممکن ہوتا ہے۔ مسلمان جن کی زندگی کے منشور ہیں یہ
 بات شامل ہے کہ دنیا سے فاسد نظام کو ختم کیا جائے اور نظام مصطفیٰ کو
 رائج کر کے پستی ہوئی انسانیت کو نجات دلائی جائے۔ اگر ان کے کچھ افراد
 ان باتوں میں مدد کرنی شروع کر دیں جن سے باطل کے اصولوں کو تقویت پہنچتی
 ہو تو نظام حق کے لئے چلائی گئی تحریک کو نقصان ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے ہر فرد پر یہ قہید
 لگا دی ہے کہ مدد کے ہاتھ صرف نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں اٹھنے چاہئیں۔ اگر
 کوئی شخص اثم اور عدوان کو پھیلانے کی سعی میں مصروف ہوتا ہے
 تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔

رائے یا ووٹ ایک مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک
 مقدس امانت ہے۔ اس کا صحیح استعمال ”تعاون علی البرِّ والتَّقویٰ“
 میں شامل ہے اور اس کا غلط استعمال ”تعاون علی الاثم“ کے
 ضمن میں آتا ہے۔

اگر کوئی شخص اپنے حق رائے کو کسی باطل نظام کی تائید میں استعمال کرتا

ہے تو وہ "إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" کے زمرے میں آتا ہے۔

یاد رہے کہ اسلام کے مقابلہ میں ہر انحرافی نظام باطل ہے خواہ وہ جمہوریت ہو یا سوشلزم، کمیونزم ہو یا لادینیت۔ زندگی کے کسی شعبہ میں اسلام کسی پیوند کا محتاج نہیں بلکہ اگر کوئی شخص جمہوریت یا سوشلزم کا پیوند لگاتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے باطل نظریات پر اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے۔ سور کی گردن پر اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھردی جائے تو وہ کبھی حلال نہیں ہوتا۔

غیبت سے بچنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:-

"کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے" لوگوں نے کہا کہ اللہ اور رسولؐ

بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تمہارا اپنے بھائی کو اس

طرح یاد کرنا جو اُسے ناگوار گذرے۔ آپ سے کہا گیا کہ اگر وہ

بات اُس میں موجود ہو تو آپ نے جواب دیا۔ اگر وہ اُس

میں موجود ہو تو تم نے غیبت کی۔ اگر نہیں تو تم نے بہتان باندھا۔"

حدیث مذکورہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے غیبت کی تعریف یوں کی جا

سکتی ہے کہ کسی مسلمان کی غیر حاضری میں اُس کی کوئی ایسی بات کرنا جو اُسے

ناگوار گذرے وہ غیبت کہلاتی ہے۔ وہ بڑائی جو بیان کی گئی ہو برابر ہے

کہ اُس میں موجود ہو یا نہ ہو۔

قرآن مجید نے غیبت کی مذمت کی اور اس سے بچنے کو تقویٰ کا تقاضا

تکرار دیا۔

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم مِّمَّا آيَحِبُّ أَحَدُكُمْ
أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

(الحجرات : ۱۲)

”تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرنے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ یقیناً تمہیں یہ ناپسند ہے۔ ڈرو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی غیبت کی مذمت ایک دفعہ اسی صورت میں کی۔ جب کہ ماعز بن مالک سلمیٰ کو زنا کے جرم میں رحم کی سزا دی گئی، تو دو صحابہوں نے ان پر تنقید کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ کچھ دور راستے میں آپ کی نظر ایک مردہ گدھے پر پڑی۔ آپ نے ان صحابہوں کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو کھانا شروع کرو۔ انہوں نے جواب دیا: اسے کون کھائے؟ آپ نے ان سے کہا کہ ابھی جو تم اپنے مرنے ہوئے بھائی پر حرف زنی کر رہے تھے۔ وہ اس کے کھانے سے زیادہ بُری تھی۔

بدکاری سے اجتناب

بیماریوں کے جراثیم کو مارنا عین منسلحت ہوتا ہے۔ قوم لوط کی اخلاقی پستی جب حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہی مناسب سمجھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر فرشتوں کو نہایت خوبصورت لڑکوں کی

صورت میں بھیجا گیا۔ قوم لوط خوشیاں مناتی ہوئی آئی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ وہ کیا جانتے تھے کہ خوبصورتی کے روپ میں ان کی تباہی کا سامان مہیا کیا گیا ہے۔ کتنی ہی بد نصیب قوم تھی کہ اپنی بربادی پر تہمت لگا کر وقت کے نبی سے قیل و قال کر رہی تھی۔ خدا کی کارسازیاں بھی عجیب ہیں۔ چاہے تو یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں پھینک کر گھر سے بے گھر کر کے۔ بازار مصر میں بیچ کر زنداں کی سختیاں دے کر اس کے عروج کے زینے طے کر داتے، اور چاہے تو قوم لوط کے سامنے حسن رچا کر ان سے تہمت لگوا کر واصل جہنم کر دے۔

جب لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ وہ ان لڑکوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ تو لوط علیہ السلام نے بڑے موثر انداز میں قوم کو تقویٰ کی تلقین کی۔ فرمایا:-

قَالَ إِنَّ لَكُمْ فِي هَٰذَا نِسَاءً تَنصُرُونَهُ وَ
اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَهُ (الحجر: ۶۸، ۶۹)

”لوٹ (علیہ السلام) نے فرمایا۔ بے شک یہ میرے مہمان ہیں۔ پس تم میری نصیحت نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔“

جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی دعوت کو نہ سنا، تو وہی لڑکے ان کے عذاب کا باعث بنے، اور قوم لوط کو ایک چنگھاڑنے لے لیا۔ اس طرح عذاب الہی کا وعدہ پورا ہوا۔

قوم لوط کو عذاب میں گرفتار کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ بدکاری اور بد فعلی کے اڈے جما کر فحاشی، عریانیت، زناکاری اور لواطت کا درس دیتے تھے۔ دن کے اس قومی نوعیت کے جرم پر رب العزت نے انہیں زمین میں دھنسا دیا۔

ہلاکتِ قومِ لوط سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور بدکاری اور اس کے مقدمات سے مکمل اجتناب برتنا چاہیے۔

اساسِ عمل

اعمال اور مختلف افعال کا حسن انسان کے باطنی ارادے اور حسن نیت کا مرہون بنتا ہے۔ بظاہر کوئی کام کتنا ہی حسین اور دلکش کیوں نہ ہو، جب تک ارادہ اور نیت صحیح اور درست نہ ہو وہ کام نامقبول ہوگا۔ اس اعتبار سے تمام نیکیوں اور سارے امور کی بنیاد چونکہ حسن نیت اور خلوص پر ہے۔ اس لئے قرآن حکیم اسے ”تقویٰ“ قرار دے کر سارے اعمال کی اساس قرار دیتا ہے اور ہر وہ کام جس کی بنیاد ”تقویٰ“ پر نہ ہو اسے قابلِ مذمت سمجھتا ہے۔ ان امور کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے۔ ”جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو“

ہمارے اس موقف کو مسجدِ مزار کا واقعہ قوت دیتا ہے۔ ارشادِ ربّ

ذوالجلال ہے :-

اَنْسَنُ اَنْسَانَ بِنْيَانِهٖ عَلٰى تَقْوٰى مِنْ اِلٰهِ
وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْرٌ مِّنْ اَنْسَنِ بِنْيَانِهٖ عَلٰى
شَفَا جُرُوفِهَا رِ۔ (التوبہ : ۱۰۹)

”کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقویٰ اور اللہ کی رضا پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے رکھی“

اور اس مسجد کو عبادت کے لئے حقدار قرار دیا جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔

لَسَجِدٌ أُتِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ

أَنْ تَقُومَ فِيهِ ط - (التوبہ : ۱۰۸)

”وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی وہی مستحق ہے کہ آپ اس میں جائیں۔“ اسی طرح سارے امور کی جان اللہ تعالیٰ نے تقویٰ قرار دیا۔ سفر ز اور راہ کا مسئلہ ہو تو ارشاد باری تعالیٰ ہے :-
وَتَزُودُ وَإِنَّا فِئَانَ خَيْرٍ الزَّادِ الشَّقْوَىٰ -

ز سفر میں، ز اور راہ لو اور سب سے اچھا تو شرہ ”تقویٰ“ ہے۔

جسم کی زیب و زینت کی بات ہو تو پھر ”تقویٰ“ ہی ملحوظ نظر و عمل رکھنے کی تلقین فرمائی۔

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَاكَ خَيْرٌ - (الاعراف ۲۴)

اور تقویٰ ہی کا لباس سب سے بہتر ہے۔

عفو و درگزر

خداوند کریم نے عفو و درگزر کو ”تقویٰ“ کے نہایت ہی قریب قرار دیا۔

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ - (بقرہ : ۲۳۷)

اگر تم معاف کرو تو یہ ”تقویٰ“ سے قریب تر ہے۔

ایک اور آیت میں تصور کرنے والوں کو معاف کر دینے کا اشارہ اس

طرح فرمایا :-

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ه

(النور : ۲۲)

”چاہے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو معاف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور نہربان ہے۔“

غصہ اور غضب کے وقت ضبط و سکون کے حاملین اور معاف کر دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (شوری: ۳۴)

”اور جس وقت غصہ آئے تو وہ معاف کرتے ہیں۔“

وہ لوگ جو عفو و درگزر کو اپنا شعار بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت ۷۵ میں ان کی مغفرت اور ان کے لئے وسیع جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ شوریٰ میں صبر اور معاف کر دینے کی صفت کو بڑی اہمیت کی بات قرار دیا گیا۔

وَلَسَنُصَبِّرَنَّوَعَفَّرَنَّ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ

(شوری، ۴۲)

”جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔“ عفو و درگزر کی فضیلت میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَا نَزَّادُ اللّٰهَ رَجُلًا يَعْفُو الْاَعْرَآءَ -

”درگزر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں محسنین کی جن صفات کے ساتھ تعریف کی ان

میں معاف اور درگزر کرنے کی صفت کو بھی گنا۔

وَالْكَافِرِينَ الْغَائِبِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ط

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: ۱۳۴)

”غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ نبی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔“

ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا: ”یا رسول اللہ! میں اپنے خادم کا قصور کتنا معاف کروں؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر روز ستر بار۔“

حضرت ابوسعود صحابیؓ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی ”جان لو، جان لو“ دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے: ”ابوسعود! جتنا تم خادم پر قابو رکھتے ہو اس سے زیادہ خدا تم پر قابو رکھتا ہے۔“ ابوسعود فرماتے ہیں کہ اس بات کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ پھر میں نے کسی غلام کو نہ مارا۔

سچائی

قرآن حکیم نے صدق اور سچائی کو بھی مشقی کی صفات میں گنا۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (الرؤساء: ۲۵)

جو سچ لے کر آیا اور اس کو سچا بھی جانا سو وہی پرہیزگار ہے۔“

صدق اور سچائی کو جہاں خدائی صفت ہونے کا شرف حاصل ہے وہاں

انسانی اخلاق کے میدان میں بھی اسے سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام حاصل ہے۔

صدق چونکہ دل اور زبان کی ہم آہنگی کا نام ہے۔ اس لئے اگر سچائی اور صداقت

حاصل ہو جائے تو نیکیوں کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔
 اعمال اور اخلاق کی بنیاد سچائی ہے۔ اسی لئے اسلام نے صرف "صدق"
 کے اختیار کرنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنے کا مسلمانوں کو
 پابند بناتے ہوئے اس کو تقویٰ کا ایک تقاضا قرار دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ

الْمُتَّقِينَ (التوبة : ۱۱۹)

"اے اہل ایمان تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔"

قیامت کے دن بھی صدق ہی کام آئے گا۔

هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الْمُتَّقِينَ هَذَا يَوْمُ هُمْ

(المائدہ : ۱۱۹)

"یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ ہی کام دے گا۔"

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں "صدق" کی چھ اقسام بیان کی ہیں۔

۱۔ زبان کی سچائی

۲۔ نیت کی سچائی

۳۔ عزم کی سچائی

۴۔ عزم کو تکمیل تک پہنچانے کی سچائی

۵۔ عمل میں سچائی

۶۔ امور دینیہ میں سچائی

صدق کی برکت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ملاحظہ

ہو جس میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ مجھ میں

چار بری خصلتیں ہیں، یا رسول اللہ! ایک کو چھوڑ دینے کی تلقین فرمائیں۔ کتاب

نے فرمایا تھا، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترک جھوٹ اور سچائی اختیار کرنے کی وجہ سے اسے ساری بڑی نعمتوں سے محفوظ کر دیا۔
اللہ تعالیٰ سچ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

احسان

تقویٰ کا تعلق چونکہ شخصی اور اجتماعی حسن اور جمال کے ساتھ ہے۔ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی خوبیاں تقویٰ میں داخل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ان تمام اوصاف شخصی و اجتماعی اور افعال خیر کے لئے ایک جامع اصطلاح ”احسان“ استعمال کر کے اسے تقویٰ کا تقاضا قرار دیتا ہے۔

وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا (النساء : ۱۲۸)

”اگر تم یہی کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔“

ہر قسم کی نیکی خواہ وہ بصورتِ فعل و عمل ہو یا تصور و عقیدہ احسان کے مفہوم میں داخل ہے لیکن قرآن حکیم میں شکر، مصیبت سے نجات دلانا، حقوق کی ادائیگی، صدقات اور قرضِ حسنہ وغیرہ کو احسان قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم، مہمان نوازی، تنگ دست کو مہلت، گردنوں کے پھڑانے، صلہ رحمی، اچھی گفتگو، ضعیف کی مدد، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا اور ایذا رسانی سے اجتناب کرنے کو ”احسان“ قرار دیا۔

اللہ تعالیٰ نے محسن کے بارے میں ارشاد فرمایا۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران : ۱۳۴)

”اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“
ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔
اجبہ فی عن الاحسان۔

”یا رسول اللہ! احسان کے بارے میں ہمیں خبردار کیجئے۔“
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

ان تعبد اللہ كأنك تراه فان لم تكن تراه
فانك يراک۔ (مشکوٰۃ: کتاب الایمان)

”تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے کہ تو اُسے دیکھ رہا ہے، یا اگر
تو اُسے نہیں بھی دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“

یہاں پر محدثین نے احسان سے مراد ”اخلاص“ لیا، چونکہ تصوف کی حقیقت
بھی یہی ”اخلاص“ ہے جو بدرجہ اتم سالک کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار
سے بعض متصوفین نے تصوف کا ماخذ احسان قرار دیا۔ حدیث شریف میں احسان
کے مفہوم کو اسلام اور ایمان سے الگ قرار دیا گیا۔ جس کو اگر اسلام سے
علیحدہ قرار نہ بھی دیا جاسکتا ہو، تاہم پھر بھی کم از کم مسلمان کی عرفانی زندگی پر
ضرور دلالت ہے۔

صبر

سفینہٴ رحمت کو موت کے ساحل تک پہنچنے کے لئے متعدد آبنائوں سے
گزرنا پڑتا ہے، کبھی تو حسین تمنائیں اور فرحت بخش امیدیں اس کا استقبال
کرتی ہیں اور کبھی غم و آلام اور کرب و مصائب کے وجود پاش تھپیڑے اس
کو اپنے زرنے میں لے لیتے ہیں۔ حالات کے بیکراں سمندر میں کبھی تو طرب و

نشاط کی موجیں اُسے بلند یوں پر اٹھا لیتی ہیں اور کبھی پریشانی اور اضطراب کے وحشت ناک بھنور میں جا پھینکتی ہیں۔

حالات کی نوعانوی اور ہیجان انگیز انقلابات کے تنوع و اختلافات پر کیا کسی شخص کو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ کیا مصائب پر آہ و نغال اور ماتم و سوچ کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے۔

ہاں وہ لوگ جنہیں قرطاس حیات پر واضح نقوش ثبت کرنے ہوں۔ ان کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت مقاصد زندگی کی تکمیل کی خاطر جان کاومی، دیدہ ریزی اور محنت و مشقت کے ساتھ ساتھ نتائج کے انتظار میں صبر و ثبات اور استقامت و استقلال کا دامن تھامے رکھیں۔

تقویٰ جو مسلمان کے اس کردار کا نام ہے جس سے اس کی شخصیت میں حسن، توازن، سنجیدگی، متانت اور وقار پیدا ہوتا ہے۔ مصائب و آلام کے وقت صبر اور مصابرت بھی اس کا ایک تقاضا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا
وَسَأَبْطُؤْا قَدِ اتَّقَوْا اللَّهَ كَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ه

(آل عمران : ۲۰۰)

”اے ایمان والو! صبر کرو اور ثابت قدم رہو، خدمت حق کے لئے آمادہ رہو اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو۔“

صبر کا معنی کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں۔

تثبُّتٌ اور شدت کے وقت روکنے کو صبر کہتے ہیں۔

عرب کہتے ہیں ”صَبْرَةُ الدَّابَّةِ“ میں نے بغیر چارہ کے جانور کو

روک لیا۔ جانشین بنالینے کے معنوں میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحاً نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے باز رہنے پر نفس کو پابند رکھنا صبر کہلاتا ہے۔ مصابیرہ کا مفہوم صبر سے تھوڑا مختلف واقع ہوا ہے۔ عام طور پر اس کا مطلب دشمن کے مقابلہ میں پامردی دکھانا لیا جاتا ہے۔ باطل کے خلاف ایک دوسرے سے بڑھ کر کمر بستگی کا مظاہرہ کرنا بھی مصابیرہ کے مفہوم میں داخل ہو سکتا ہے۔

تیاری جہاد

مسلمان خالق کائنات کی طرف سے وہ انقلابی جماعت ہے جو ہر دم خدمت انسانیت کے لئے کمر بستہ رہتی ہے۔ جہاں بھی اور جس وقت بھی کوئی ابلہسی اور رکشش قوت "فساد" کے لئے اپنا دامن ہمزنگ زمین بچھاتی ہے۔ ان کی خدائی صفوں میں حرکت آجاتی ہے۔ ایک ایک مسلمان لذت حیات سے بے آشنا ہو کر موت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔

ظاہر ہے باطل اور طاغوت کو درس عبرت دینے کے لئے طاقت اور قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم جہاں مسلمانوں کو فلاح انسانیت کے لئے دیگر صلاحیتیں بروئے کار لانے کا پابند کرتا ہے، وہاں "اعدو لہم ما استطعتم" کے تحت دشمن کے مقابلہ میں ہر طرح کی مادی تیاری کا بھی حکم دیتا ہے۔

"تقویٰ" جو کہ دایم مومن کا دوسرا نام ہے۔ اپنے حامل میں یہ فکر اور سوچ بھی اُجاگر کرتا ہے کہ غلبہ اسلام کے لئے مسلمان کو ہر دم دشمن کے مقابلہ میں تیار اور کمر بستہ رہنا چاہیے۔

ارشادِ ربِّ ذوالجلال ہے۔
 وَرَابِطُوا قَدَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(آل عمران : ۱۲۰)

”خدمتِ حق کے لئے آمادہ اور تیار رہو اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو۔“

ربط اور رباط کا لغوی معنی تو گھوڑے کو حفاظت کے لئے کسی جگہ مضبوطی سے باندھ دینا ہوتا ہے اور اس سے ”رباط الجیش“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اصلاحی طور پر اپنے آپ کو غلبہٴ دین کے لئے آمادہ، عبادت کا پابند اور دشمن کے مقابلے میں کمر بستہ رہنے کو رباط کہتے ہیں۔

صاحبِ مفردات نے ”رباط“ کے مفہوم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے تیار رہنا بھی ”رباط“ ہے۔

”رباط“ کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ یہی ہے کہ انسان ”جہاد فی سبیل اللہ“ کے لئے ہر وقت تیار رہے۔

حزمتِ سود

معاشی بد حالی معاشرتی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ غربت اور افلاس، صبر اور استقامت کی دولت کے بغیر اخلاقی بیماریوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ اخلاقی اقدار کے مٹ جانے کی وجہ سے تعمیر و ترقی کے میدان میں جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل معاشی نظام کی حیثیت سے ایسی تمام بنیادی کمزوریوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ جن سے جبرائلت کی صحت بگڑ جانے کا اندیشہ ہو۔

سود جس کے لئے عربی زبان میں لفظ ”ربا“ استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایسی مذموم حرکت اور قبیح بیماری ہے جس کا ارتکاب کرنے والوں کے حق میں قرآن حکیم کی یہ وعید ہے۔

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (آل عمران : ۱۳۱)

اُس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

امام ابوحنیفہؒ اس آیت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ ڈرنے والی آیت یہی ہے۔ اس لئے کہ اس آیت میں آگ کی وعید ان لوگوں کے لئے جو کافر تو نہیں لیکن اللہ کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزیں حلال جانتے ہیں۔

احکام الہی سے بے رغبتی اور بے اعتنائی برتنا چونکہ ”تقویٰ“ کے منافی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ شدیداً بیان اسلام کے لئے یہ ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ سود جیسی قبیح حرکت سے بچیں۔ فرمان خداوندی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(آل عمران : ۱۳۰)

”اے ایمان والو! سود بڑھا بڑھا کر نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہاری فلاح ہو۔“

علمائے کرام نے آیت کا ترجمہ مختلف طریقوں سے کیا ہے۔ ترجمہ دوگنا سے کیا جائے یا ”خوب بڑھانے“ سے کیا جائے بہر صورت ہر قسم کے سود کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔

س۔ تفسیر مدارک



دُعَاء

اے پروردگار! میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق بخشی کہ ”تقویٰ“ کے موضوع پر کچھ لکھنے کے قابل ہوا۔ میں اس امید کے ساتھ دامنِ قرطاس کو سمیٹتا ہوں کہ تو پھر بھی اسے چمنستانِ دین سے گل چینی کی توفیق عطا فرماتا رہے گا۔

الہ العالمین! توجاہے توحید سے ستون کا کام لے لے اور چاہے توجاہل کو فیضِ علم کا سرچشمہ بنا دے۔ دنیا کا نظام تیری نگاہِ عنایت ہی سے چل رہا ہے۔

اے میرے اللہ! زمین پر بسنے والی انسانیت تیرے مقصودی نظام سے دور ہو رہی ہے۔ اسے قرآن کے قریب کر دے۔

(آمین یا ربنا الکی)۔



4-15